

ہے۔ نہیں پسند کو رب اور بے ناپاک قربانی یہ کہ چاہئے ہونا علم اُسے تو کھائے دن تیسرے اُسے کوئی اگر

8	וְאֶבְלִיּוֹ	עֲזָוָה	יִשָּׂא	כִּי-	אֶת-	קֹדֶשׁ	יְהוָה	חֲלָל	וְנִכְרְתָהּ
	اور-کھائے-والا-اس	اپنی-بدکاری	اٹھائے	کیونکہ-	کو-	مقدس	یہوواہ-کا	بے-حرمتی-کیا	اور-کاٹ-دی-جائے
	H0398	H5771	H5375		H0853	H6944	H3068		H3772

הַנֶּפֶשׁ	הָהוּא	מֵעַמִּיהָ:
جان-	وہ	اپنے-لوگوں-سے
H5315	H1931	

اُسے تھی۔ گئی کی مخصوص لئے کے رب جو بے کی ختم حالت مُقدس کی چیز اُس نے اُس کیونکہ گی، پڑے اٹھانی سزا کی قصور اپنے کو شخص ایسے جائے۔ مٹایا سے میں قوم کی اُس

9	וְנִכְרְתֶם	אֶת-	קִצִּיר	אֲרֻצְתְּכֶם	לָא	תְּכַלֶּה	פָּאֵת	שָׂדֵךְ	לְקִצְרָה
	اور-جب-کاٹو-تم	کو-	فصل	اپنی-زمین-کی	نہ	مکمل-کرو	کونے	اپنے-کھیت-کے	کاٹنے-کے-لیے
	H0853			H0776	H3808	H3615	H6285		

וְלִקְטָה	קִצִּירָה	לָא	תִּלְקֹט:
اور-گریں	اپنی-فصل-کی	نہ	چنو
H3951		H3808	H3950

اُسے جائے بچ میں کھیت وقت کرتے کٹائی کچھ جو طرح اِس دینا۔ چھوڑ کچھ پر کناروں کے کھیت بلکہ کاٹنا نہ پر طور پورے فصل اپنی وقت کے کٹائی چھوڑنا۔

10	וְכִרְמָה	לָא	תְּעֹזְלָהּ	וּפְרֹת	כִּרְמָה	לָא	תִּלְקֹט	לְעֵנִי	וְלִגְרָה
	اور-اپنا-انگور	نہ	دوبارہ-لو	اور-گریں	اپنے-انگور-کی	نہ	چنو	غریب-کے-لیے	اور-پردیسی-کے-لیے
	H3754	H3808		H6528	H3754	H3808	H3950	H6041	H1616

תְּעֹזֵב	אֲתֶם	אֲנִי	יְהוָה	אֱלֹהֵיכֶם:
چھوڑ-دو	انہیں	میں	یہوواہ	تمہارا-خدا
H0853	H0589	H3068	H0430	

اور غریبوں اُنہیں جانا۔ لے نہ کر اٹھا اُنہیں گریں پر زمین انگور جو دینا۔ چھوڑ اُسے جائے بچ وقت توڑتے انگور کچھ جو بھی میں باغوں کے انگور ہوں۔ خدا تمہارا رب میں دینا۔ چھوڑ لئے کے پردیسیوں

11	لָא	תִּנְגְּבוּ	וְלֹא-	תִּכְחָשׁוּ	וְלֹא-	תִּשְׁקְרוּ	אִישׁ	בְּעַמִּיתוֹ:
	نہ	چوری-کرو	اور-نہ-	جھوٹ-بولو	اور-نہ-	دھوکہ-دو	آدمی	اپنے-پڑوسی-سے
	H3808	H1589	H3808	H3584	H3808	H8266	H0376	H5997

دینا۔ نہ دھوکا کو دوسرے ایک بولنا، نہ جھوٹ کرنا، نہ چوری

12	וְלֹא-	תִּשְׁבְּעוּ	בְּשֵׁמִי	לְשָׁקֶר	וְחֲלָלְתָּ	אֶת-	שֵׁם	אֱלֹהֶיךָ	אֲנִי	יְהוָה:
	اور-نہ-	قسم-کھاؤ	میرے-نام-سے	جھوٹی	اور-بے-حرمتی-کرو-گے	کو-	نام	اپنے-خدا-کا	میں	یہوواہ
	H3808	H7650	H8034	H8267		H0853	H8034	H0430	H0589	H3068

ہوں۔ رب میں گے۔ لگاؤ داغ کو نام میرے تم ورنہ دینا، نہ دھوکا کر کھا قسم کی نام میرے

13	لָא-	תַּעֲשֶׂק	אֶת-	רַעֲיָה	וְלֹא	תִּנְזֹל	לָא-	תִּלְוִן	פְּעֻלָּת	שָׂכִיר	אֶתְּךָ	עַד-
	نہ-	ظلم-کرو	کو-	اپنے-پڑوسی	اور-نہ	لوٹو	نہ-	رکھو	مزدوری	مزدور-کی	اپنے-پاس-تک-	
	H3808	H6231	H0853	H7453	H3808	H1497	H3808	H6468	H7916	H0854	H5704	

بְּקֶרֶב:
صبح
[H1242](#)

رکھنا۔ نہ روکے تک صبح اگلی اُسے اور دینا دے تک شام کی دن اُسی مزدوری کی کسی لُٹنا۔ نہ اور دبانہ نہ کو دوسرے ایک

14	לֹא- نہ-	תְּקַלְלֵנוּ لعنت-کرو	חֲרַשׁ بہرے-کو	וּלְפָנַי اور-سامنے	עֲזָר اندھے-کے	לֹא نہ	תִּתֵּן رکھو	מִכְשָׁל رکاوٹ	וַיִּרְאֶתָ اور-ڈرو	מֵאֵלֶיךָ اپنے-خدا-سے	אֲנִי میں
	H3808	H7043	H2795	H6440	H5787	H3808	H5414	H4383	H3372	H0430	H0589

יְהוָה:
یہوواہ
H3068

ہوں۔ رب میں ماننا۔ خوف کا خدا اپنے بھی میں اس کھائے۔ ٹھوکر وہ سے جس رکھنا چیز کوئی میں راستے کے اندھے نہ کوسنا، نہ کو بہرے

15	לֹא- نہ-	תַּעֲשֵׂוּ کرو	עֲוָל ناانصافی	בְּמִשְׁפָּט عدالت-میں	לֹא- نہ-	תִּשָּׂא دیکھو	פְּנֵי- چہرہ-کو-	דָּל غریب-کا	וְלֹא اور-نہ	תְּהַדְדֵר عزت-کرو	פְּנֵי چہرے	גְּדוּל بڑے-کے
	H3808			H4941	H3808	H5375	H6440	H1800	H3808	H1921	H6440	

בְּצַדִּיק
انصاف-سے
 תִּשְׁפֹּט فیصلہ-کرو | עַמִּיתָךְ: اپنے-پڑوسی-کا || | H6664 | H8199 | H5997 |

پڑوسی اپنے سے انصاف ہو۔ والا رسوخ و اثر یا غریب وہ چاہے کرنا، نہ داری جانب بھی کسی وقت کرتے فیصلہ کرنا۔ نہ تلفی حق کی کسی میں عدالت کر۔ عدالت کی

16	לֹא- نہ-	תִּלְוֶהָ جاؤ	רְכִיל چفل-خور	בְּעֵמֻקָּי اپنے-لوگوں-میں	לֹא نہ	תַּעֲמֹד کھڑے-رہو	עַל- پر-	דָּם خون	רַעַף اپنے-پڑوسی-کے	אֲנִי میں	יְהוָה: یہوواہ
	H3808	H3212	H7400		H3808	H5975		H1818	H7453	H0589	H3068

ہوں۔ رب میں جائے۔ پڑ میں خطرے جان کی کسی سے جس کرنا نہ کام ایسا بھی کوئی لگانا۔ نہ بہتان پر کسی بوئے پھرتے ادھر ادھر میں قوم اپنی

17	לֹא- نہ-	תִּשְׁנֵא نفرت-کرو	אֶת- سے-	אֶחָיֶךָ اپنے-بھائی	בְּלִבְבָךָ اپنے-دل-میں	הוֹכַח سمجھانا	תוֹכִיחַ سمجھاؤ	אֶת- کو-	עַמִּיתָךְ اپنے-پڑوسی	וְלֹא- اور-نہ-	תִּשָּׂא اٹھاؤ
	H3808	H8130	H0853	H0251	H3824	H3198	H3198	H0853	H5997	H3808	H5375

עָלְיוֹ
اس-پر
 קָטָא: گناہ || | | H2399 |

گا۔ ٹھہرے قصوروار سے سبب کے اُس ٹو ورنہ کرنا، رُو برُو تو بے کرنی سرزنش کی کسی اگر کرنا۔ نہ نفرت سے بھائی اپنے میں دل

18	לֹא- نہ-	תִּקַּם بدلہ-لو	וְלֹא- اور-نہ-	תִּטַּר- کینہ-رکھو	אֶת- سے-	בְּנִי بنی-	עֲמֻנָךְ اپنے-لوگوں-کے	וְאֶהֱבֶתָ اور-محبت-کرو	לְרַעֲךָ اپنے-پڑوسی-سے	כְּמוֹךָ اپنے-جیسے
	H3808	H5358	H3808	H5201	H0853			H0157	H7453	H3644

אֲנִי
میں
 יְהוָה: یہوواہ || | H0589 | H3068 |

رب میں ہے۔ رکھتا سے آپ اپنے ٹو جیسی رکھنا محبت ویسی سے پڑوسی اپنے بلکہ رہے نہ غصہ تیرا تک دیر پر شخص کسی کے قوم اپنی لینا۔ نہ انتقام ہوں۔

19	אֶת- کو-	חֻקְתִּי میرے-فرائض-	תִּשְׁמְרוּ ماننا	בְּהַמְתָּד اپنے-جانور	לֹא- نہ-	תִּרְבִּיעַ ملاؤ	כְּלָאִים مختلف-قسم-کے	שָׂדֶךְ اپنا-کھیت	לֹא- نہ-	תִּזְרַע بیجو
	H0853	H2708	H8104	H0929	H3808	H7250	H3610		H3808	H2232

כְּלָאִים
مختلف-قسم-سے
 וַיְבַדֵּךְ اور-کیڑا | כְּלָאִים مختلف-قسم-کا | שַׁעֲמִיז ملا-بوا | לֹא نہ | יַעֲלֶה آئے | עֲלִיךָ: تم-پر | פ || | H3610 | H3610 | H8162 | H3808 | H5927 | | |

مختلف دو جو پہننا نہ کیڑا ایسا ہونا۔ نہ بیج کے قسم دو میں کھیت اپنے دینا۔ کرنے نہ ملاپ کو جانوروں کے قسم مختلف دو کرو۔ عمل پر ہدایات میری ہو۔ ہوا بُنا کا دھاگوں کے قسم

20	וְאִישׁ	כִּי-	יִשְׁכַּב	אֶת-	אִשָּׁה	שְׁכַבְתָּ-	זָרַע	וְהוּא	שִׁפְחָה	נִחְרַפְתָּ	לְאִישׁ
	اور-آدمی	جو-	لیٹے	کے-ساتھ-	عورت	لیٹنا-	منی-کا	اور-وہ	لونڈی	منگنی	آدمی-کے-لیے
	H0376		H7901	H0854	H0802	H7902	H2233	H1931	H8198		H0376

	וְהִפְדִּיהָ	לֹא	נִפְדָּתָה	אֹז	חֲפֹשָׁה	לֹא	נָתַן-	לָהּ	בְּקִרְתָּ	תְּהַיְהוּ	לֹא
	اور-جھڑائی-بوئی	نہ	جھڑائی-گئی	یا	آزادی	نہ	دی-گئی-	اسے	سزا	بو	نہ
	H6299	H3808	H6299		H2668	H3808	H5414	H1244	H1961		H3808

	יּוֹמָתוֹ	כִּי-	לֹא	חֲפֹשָׁה:
	مارے-جائیں	کیونکہ-	نہ	آزاد-بوئی
	H4191		H3808	H2666

بو گیا کیا آزاد ہی ویسے نہ سے پیسوں نہ تک اب کو لونڈی اور جائے ہو بستر ہم ہو چکی ہو سے اور کسی منگنی کی جس سے لونڈی کسی آدمی کوئی اگر گیا۔ کیا نہیں آزاد تک اب اُسے کیونکہ جائے، دی نہ موت سزائے انہیں لیکن جائے۔ دی سزا مناسب تو

21	וְהִבִּיא	אֶת-	אֲשָׁמוֹ	לְיִהוָה	אֶל-	פֶּתַח	אֶהָל	מוֹעֵד	אֵיל	אֲשָׁם:
	اور-لائے	کو-	اپنا-جرمانہ	یہوواہ-کے-لیے	پاس-	دروازے	خیمہ	اجتماع-کے	مینڈھا	جرمانے-کا
	H0935	H0853	H0817	H3068	H0413	H6607	H0168	H4150		H0817

جائے۔ کیا پیش پر طور کے قربانی کی قصور کو رب وہ تاکہ آئے لے مینڈھا ایک پر دروازے کے خیمے کے ملاقات آدمی قصور وار

22	וְכִפֵּר	עֲלָיו	הַכֹּהֵן	בְּאֵיל	הָאֲשָׁם	לְבִנְיָ	יְהוָה	עַל-	חֲטָאתוֹ	אֲשֶׁר
	اور-کفارہ-دے	اس-پر	کابن-	مینڈھے-سے-	جرمانے-کے	کے-سامنے	یہوواہ	پر-	اس-کے-گناہ	جو
			H3548		H0817	H6440	H3068			

	חֲטָא	וְנִסְלַח	לָו	מִחֲטָאתוֹ	אֲשֶׁר	חֲטָא:	פ
	کیا	اور-معاف-بو	اسے	گناہ-سے-اس-کے	جو	کیا	.
	H2398	H5545				H2398	

گا۔ جائے کیا معاف گناہ کا اُس یوں دے۔ کفارہ کا گناہ کے اُس سامنے کے رب سے قربانی اس امام

23	וְכִי-	תִּכְאוּ	אֶל-	הָאָרֶץ	וְנִטְעַתֶּם	כָּל-	עֵץ	מֵאֲזָלָ	וְעַרְלָתוֹ
	اور-جب-	داخل-بو	میں-	زمین-	اور-لگاؤ	ہر-	درخت	پھل-کا	اور-نامختون-سمجھو
		H0935	H0413	H0776	H5193	H3605	H6086	H3978	H6188

	אֶת-	פְּרִי	שָׁלֹשׁ	שָׁנִים	יְהִי	לְכֶם	עֵרְוָה	לֹא	יֵאָכֵל:
	کو-	اس-کے-پھل	تین	سال	ہو	تمہارے-لیے	نامختون	نہ	کھایا-جائے
	H0853	H6529	H7969	H8141	H1961		H6189	H3808	H0398

سمجھنا۔ ممنوع اُسے بلکہ کھانا نہ پھل کا اُن سال تین پہلے تو گے لگاؤ درخت دار پھل تم بعد کے ہونے داخل میں کنعان ملک جب

24	וּבְשָׁנָה	הִרְבִּיעַת	יְהוָה	כָּל-	פְּרִי	קֹדֶשׁ	הַלְלוּ	לְיְהוָה:
	اور-سال-میں-	چوتھے	ہو	تمام-	اس-کے-پھل	مقدس	تعریف-کے	یہوواہ-کے-لیے
	H8141	H7243	H1961	H3605	H6529	H6944	H1974	H3068

جائے۔ کیا مخصوص لئے کے رب پر طور کے نذرانے مقدس کے خوشی پھل تمام کا اُن سال چوتھے

25	וּבְשָׁנָה	הִחְמִישַׁת	הָאֲכָלוּ	אֶת-	פְּרִי	לְהוֹסִיף	לְכֶם	תְּבוּאָתוֹ	אֲנִי
	اور-سال-میں-	پانچویں	کھاؤ	کو-	اس-کے-پھل	بڑھانے-کے-لیے	تمہارے-لیے	اس-کی-پیداوار	میں
	H8141	H2549	H0398	H0853	H6529	H3254		H8393	H0589

	יְהוָה	אֱלֹהֵיכֶם:
	یہوواہ	تمہارا-خدا
	H3068	H0430

ہوں۔ خدا تمہارا رب میں گی۔ جائے بڑھائی فصل تمہاری یوں ہو۔ سکتے کھا پھل کا اُن تم سال پانچویں

26	לֹא	תֹאכְלוּ	עַל-	הָדָם	לֹא	תִנְחָשׁוּ	וְלֹא	תַעֲוִיבוּ:
	نہ	کھاؤ	پر-	خون-کے	نہ	فال-نکالو	اور-نہ	شگون-لو
	H3808	H0398		H1818	H3808	H5172	H3808	

نکالنا۔ نہ شگون یا فال ہو۔ خون میں جس کھانا نہ گوشت ایسا

27	לֹא	תִּקְפוּ	פָּאָת	רֵאשִׁימָם	וְלֹא	תִּשְׁחִית	אֵת	פָּאָת	זְקִנְךָ:
	نہ	گول-کرو	اپنے-سروں-کے	اور-نہ	خراب-کرو	کو	کو	اپنی-داڑھی-کے	
	H3808	H6285	H3808	H3808	H7843	H0853	H6285	H2206	

تراشنا۔ کو داڑھی اپنی نہ کٹوانا، نہ میں شکل گول بال کے سر اپنے

28	וְשָׂרֵט	לְזִפְשׁ	לֹא	תִתְנוּ	בְּבִשְׂרֵם	וּבְתִבֵּת	קַעֲקַע	לֹא	תִתְנוּ	בְּכֶם	אֲנִי
	اور-کٹاؤ	جان-کے-لیے	نہ	لگاؤ	اپنے-جسموں-میں	اور-لکھائی	گودنے-کی	نہ	لگاؤ	تم-پر	میں
	H3068	H5315	H3808	H5414	H1320	H3793	H7085	H3808	H5414	H0589	H0589

יְהוָה:
یہوواہ
[H3068](#)

ہوں۔ رب میں گدوانا۔ نقوش پر جلد اپنی نہ کرنا، نہ زخمی کر کاٹ سے سبب کے مُردوں کو آپ اپنے

29	אֶל-	תְּחַלְּלֵהָ	אֶת-	בְּתִנְךָ	לְהַזְנוֹתָהּ	וְלֹא-	תִזְנֶנָּה	הָאָרֶץ	וּמִלְאָה
	نہ-	بے-حرمتی-کرو	اپنی-بیٹی-کی	زناکاری-کرائے-کے-لیے	اور-نہ-	زناکاری-کریے	زمین-	اور-بھر-جائے	
	H0408	H0853	H1323	H2181	H3808	H2181	H0776	H4390	

זְמָה:
فحاشی-سے
[H2154](#)

گا۔ جائے بھر سے کاری حرام باعث کے زناکاری ملک اور گی رہے جاتی حالت مُقدس کی اُس ورنہ بنانا، نہ کسی کو بیٹی اپنی

30	אֶת-	שְׂבָתֵי	תְּשַׁמְרוּ	וּמִקְדָּשֵׁי	תִּירָאוּ	אֲנִי	יְהוָה:
	کو-	میرے-سبتوں	ماننا	اور-میرے-مقدس-مقام-سے	ڈرو	میں	یہوواہ
	H0853	H7676	H8104	H4720	H3372	H0589	H3068

ہوں۔ رب میں کرنا۔ احترام کا مقدس میرے اور کرنا آرام دن کے ہفتے

31	אֶל-	תִּפְנוּ	אֶל-	הָאֵבֶת	וְאֶל-	הַיְדֹעִזִּים	אֶל-	תִּבְקְשׁוּ	לְטֹמְאָה	בָּהֶם
	نہ-	مڑو	طرف-	جنااتوں-کے	اور-پاس-	جادوگروں-کے	نہ-	تلاش-کرو	ناپاک-ہونے-کے-لیے	ان-سے
	H0408	H6437	H0413	H0178	H0413	H3049	H0408	H1245		

אֲנִי
میں
[H0589](#)

יְהוָה
یہوواہ
[H3068](#)

אֱלֹהֵיכֶם:
تمہارا-خدا
[H0430](#)

خدا تمہارا رب میں گے۔ جاؤ ہو ناپاک سے اُن تم ورنہ کرنا، رجوع طرف کی دانوں غیب نہ ہیں، کرتے رابطہ سے مُردوں جو جانا نہ پاس کے لوگوں ایسے

ہوں۔

32	מִפְנֵי	שִׁיבָה	תִּקְוִים	וְהִדְרֵתָ	פְּנֵי	זָקֵן	וְיִרְאֵתָ	מִמָּלְאֵיכֶיךָ	אֲנִי	יְהוָה:
	سامنے-سے	بالوں-سفید-کے	کھڑے-ہو-جاؤ	اور-عزت-کرو	چہرے	بوڑھے-کے	اور-ڈرو	اپنے-خدا-سے	میں	یہوواہ
	H6440	H7872	H1921	H6440	H2205	H3372	H0430	H0589	H3068	

פ

ہوں۔ رب میں کرنا۔ احترام کا خدا اپنے اور کرنا عزت کی بزرگوں جانا، ہو کھڑا کر اُٹھ سامنے کے لوگوں بوڑھے

33	וְכִי-	יָנוּד	אִתְּךָ	נָר	בְּאַרְצֵכֶם	לֹא	תִּזְנוּ	אֶתוֹ:
	اور-جب-	رہے	تمہارے-ساتھ	پردیسی	تمہاری-زمین-میں	نہ	ستاؤ	اسے
	H0854	H1616	H0854	H6440	H2205	H3808	H3238	H0853

دبانا۔ نہ اُسے بے رہتا درمیان تمہارے میں ملک تمہارے پردیسی جو

34 **כְּאַזְרַח** **מִכֶּם** **יְהִיָּה** **לְכֶם** **וְהִנֵּר** **הִנֵּר** **אַתֶּכֶם** **וְאַהֲבַתְּ** **לֹא**
 باشندے-جیسے تم-میں-سے ہو تمہارے-لیے پردیسی- جو-رہتا-ہے تمہارے-ساتھ اور-محبت-کرو اس-سے
[H0249](#) [H1961](#) [H1616](#) [H0854](#) [H0157](#)

כְּמוֹד **כִּי** **גֵרִים** **הָיִיתֶם** **בְּאֶרֶץ** **מִצְרַיִם** **אֲנִי** **יְהוָה** **אֱלֹהֵיכֶם**
 اپنے-جیسے کیونکہ- پردیسی تھے-تم زمین-میں مصر میں میں یہوواہ تمہارا-خدا
[H3644](#) [H1616](#) [H1961](#) [H0776](#) [H4714](#) [H0589](#) [H3068](#) [H0430](#)

یاد رکھنا۔ محبت بھی سے اُس طرح اُسی ہے رکھتا محبت سے آپ اپنے تُو طرح جس ہے۔ کرتا ساتھ کے وطنوں ہم اپنے جیسا کر سلوک ایسا ساتھ کے اُس ہوں۔ خدا تمہارا رب میں تھے۔ پردیسی میں مصر خود تم کہ رہے

35 **לֹא** **תַעֲשׂוּ** **עֲרֹל** **בְּמִשְׁפַּחַת** **בְּמִנְיָה** **בְּמִשְׁקָל** **וּבְמִשׁוֹרָה**
 نہ- کرو ناانصافی عدالت-میں ناپ-میں وزن-میں اور-پیمائش-میں
[H3808](#) [H4941](#) [H4948](#) [H4884](#)

وقت۔ناپتے مقدار کی چیز کسی نہ اور وقت تولتے نہ وقت، ناپتے لمبائی نہ میں، عدالت نہ کرنا۔ نہ ناانصافی

36 **מֵאֲזִי** **צֶדֶק** **אֲבִי-** **צֶדֶק** **אִיפֹת** **צֶדֶק** **וְהִין** **צֶדֶק** **יְהוָה** **אֲנִי** **יְהוָה**
 ترازو سچ-کا باٹ- سچ-کا ایفہ سچ-کا اور-بین سچ-کا ہو تمہارے-لیے میں میں یہوواہ
[H3976](#) [H6664](#) [H0068](#) [H6664](#) [H0374](#) [H6664](#) [H1969](#) [H6664](#) [H1961](#) [H0589](#) [H3068](#)

אֱלֹהֵיכֶם **אֲשֶׁר-** **הוֹצֵאתִי** **אֶתְכֶם** **מֵאֶרֶץ** **מִצְרַיִם**
 تمہارا-خدا جس-نے- نکالا تمہیں سے-زمین- مصر
[H0430](#) [H3318](#) [H0853](#) [H0776](#) [H4714](#)

ہوں۔لایا نکال سے مصر تمہیں جو ہوں خدا تمہارا رب میں کرنا۔ استعمال پیمانہ صحیح اور باٹ صحیح ترازو، صحیح

37 **וְשִׁמְרֶתֶם** **אֶת-** **כָּל-** **חֻקֹּתַי** **וְאֶת-** **כָּל-** **מִשְׁפָּטַי** **וְעִשִׂיתֶם** **אִתָּם** **אֲנִי** **יְהוָה**
 اور-ماننا کو- تمام- میرے-فرائض اور-کو- تمام- میرے-احکام اور-کرو انہیں میں میں یہوواہ
[H8104](#) [H0853](#) [H3605](#) [H2708](#) [H0853](#) [H3605](#) [H4941](#) [H0853](#) [H0589](#) [H3068](#)

ד

ہوں۔[رب میں کرو۔ عمل پر اُن اور مانو احکام تمام اور ہدایات تمام میری